

# Objections to the Environmental Impact Assessment (EIA) for the Construction of Malir Expressway

**To:** Director, SEPA, Karachi

**Dated:** 9th March, 2022



The conducted EIA for the construction of Malir Expressway fails to address several key environmental impacts, the most important of which is the personal, social, and economic cost of the project on the residents of areas affected by the Malir Expressway project.

Before venturing into the detailed responses to the assertions made in the EIA with regards to its effect on local population, flora and fauna, environment, and heritage sites, it is imperative to keep in view the estimated beneficiaries of the project. The project's conservative estimate of per day traffic volume is around 9000 vehicles, saving an average of 14.3 minutes per vehicle per day. It is important to contextualize these numbers with regards to impact that the project will create on the residents of rural and urban Karachi and the critical flora and fauna in the project area.

It is also imperative to understand that the project's primary beneficiaries are going to be the residents of DHA and Clifton area, areas that are highly susceptible to sea-level rise projections due to climate change. Below is a screenshot of the sea-level rise coverage of the said areas by the year 2040; whereas the project estimates growth in the traffic between these parts of the city to the south, scientific estimations portray a more accurate picture of how sea level rise will submerge large parts of these areas .




Figure 1: LAND PROJECTED TO BE BELOW 10-YEAR FLOOD LEVEL IN 2040 (Climate Central)

The project worth USD 160 million with its current design, in summary, is a project saving a small time for a small number of beneficiaries who will be one of the main victims of sea-level rises due to climate change, and this is being achieved by affecting a key region which is one of the only areas in Karachi with a potential to mitigate the impact of climate change. The lack of sheer logic in pursuing the project with its current design is both surprising and concerning.

More detailed comments on these aspects are below:

### 1. Claims made regarding ground water resources do not reflect ground realities

- The report states the “ground water resources are limited in the Project Area, where small amounts of groundwater is extracted for private use.” and mentions Dumlottee well as an example of well field located in the project area, and further states remains almost dry for the majority of the year. This does not reflect the

reality on ground. As per local sources, at least 27 wells irrigating a large area of agricultural land will be directly affected by the project, whereas, the project will affect the recharge of wells by affecting the flow of the Malir river tributaries. The extent of damage caused will include the loss of agricultural land in the area leading to a loss of employment for locals and the loss of affordable agricultural produce for a large number of residents in Karachi.

- In the EIA report, Section 7 titled 'Anticipated Project Impacts and Mitigation Measures page', the Table 7.1 (on page 7-1), point no. 4 talks about the Change in Hydrologic Regime and the impact significance is noted to be within the "low to medium" range, with the potential impact being of permanent nature (as stated in the table).
- Furthermore, point no. 5 on Seismicity (same page, 7-1), states that the expressway project falls in the Seismic Zone 2B region and the impact significance is noted to be "medium" and permanent in nature; additionally the potential impact is assessed to cause damage to the Project, as well as economic and human loss.

## **2. Ecological context stated in the report does not represent ground realities**

- The report states the use of the Integrated Biodiversity Assessment tool (IBAT) as an important reference point for study the impact of the project, which identifies 118 listed species in IUCN red list, which collates the species at risk of extinction. While the list is smaller as compared to locally recorded species, the report even rejects that list by stating its own primary research conducted in the area.
- The report identifies 16 bird species in the project area, an online database "Ebird" identifies 176 bird species at Malir Dam, just one location along the project site (Annex A) which also includes near threatened bird species.
- The report states no endangered species have been identified in the project area, however, as per the list of species locally recorded and documented, at least two identified species have endangered status as per the IUCN red list. The screenshot below provide evidence of this (the status as well as the area they are present in). Both these species have been recorded on the project site as per the online Ebird database available publicly at <https://ebird.org/hotspot/L12365576>.




Figure 2: Steppe Eagle habitat and Status (IUCN)




Figure 3: Egyptian Vulture Habitat and status

- Similarly, a local researcher has identified 73 butterfly species in the area, which have no mention in the report (Annex A). It is important to note the importance of

butterflies and moths as they have been recognized by scientists as indicators of the health of biodiversity. Their fragility makes them quick to react to change, and their loss would be a major loss for the eco-system in Karachi. They indicate the presence of other invertebrates, which comprise over two-thirds of all species. These collectively provide a wide range of environmental benefits, including pollination and natural pest control. Butterflies are an important element of the food chain and are prey for birds, bats and other insectivorous animals. Butterflies support a range of other predators and parasites, many of which are specific to individual species, or groups of species. Butterflies have been widely used by ecologists as model organisms to study the impact of habitat loss and fragmentation, and climate change.

- The report states, “wildlife populations can tolerate some fragmentation if critical movement corridors are maintained otherwise a single change and alteration can lead to habitat modification.” This point is extremely crucial as the expressway will affect the movement of wildlife across the 39 km project. Malir river supports the fauna on both sides of the bank and the project will block the movement in a significant manner, a reality that the report entirely evades.
- Similarly, the habitat of 10 mammal species and 15 reptilian species will be affected due to the project current design, most of which are not included in the report. (list included in Annex A)
- Para 451 highlights 15% surcharge will be paid for loss to orchards, crops, and trees. In multiple places the EIA (para 599) recommends tree plantation as a viable form of rehabilitation of the environment. It also mentions that the project will avoid on purpose or chance killing of animals (para 559). Para 238 falsely asserts that wildlife in the areas has disappeared because of human induced activities and climate change. They also mention hunting and grazing as one of the reasons for loss of wildlife. However, they fail to mention that projects like MEX and Bahria Town, Education City, and DHA City (that MEX is trying to make accessible) that are mostly responsible for the destruction and disappearance of the wildlife in the area. Constant noise, light and air pollution and movement associated with construction has damaged the sensitive habitat of native and migratory species. Therefore, these mitigation measures are unsatisfactory, cosmetic, and superficial and do not account for the damage to biodiversity, the ecosystem and animal habitat. It does not consider that areas in Malir and Gadap have been traditionally rich farming areas adjoining UNESCO protected forest area of Khirthar. Khirthar was designated a national park by the Sindh Wildlife Department in 1974 and is the first of Pakistan's parks to be included in the UN's listing of National Parks of

1975. In para 38, the EIA estimates that PKR 37.67 million will be needed to plant new trees. This is a cost being incurred after destroying the area's natural biodiversity including trees and is unreasonable and wasteful. These mitigation measures are in direct violation of domestic and international laws (Paris Agreement, Kyoto Protocol, UNFCCC) that Pakistan has ratified. It violates Pakistan Climate Change Act 2017 as these mitigation strategies are non-comprehensive and do not satisfy international law. Section 8(a) of this Act says the state must "formulate, comprehensive adaptation and mitigation policies, plans, programmes, projects and measures designed to address the effects of climate change and meet Pakistan's obligations under international conventions and agreements relating to climate change and within the framework of a national climate change policy as may be approved by the Federal Government from time to time." The EIA does not satisfactorily explain how such laws are being met.

### **3. The report does not include the significant impact on the local population**

- Based on local data collection, 210 permanent houses accommodating 1500 local resident will be demolished for the project, 66.35 acres of private agricultural land will be acquired for the project and 49 temporary structures will demolished. These are in addition to the religious and heritage sites that will be demolished to achieve the current project design. The demand from local population has been to alter the project design, however, the report does not include the strong opposition to the project. National media has reported the protests carried out in the area against the current project design: <https://www.thenews.com.pk/print/771794-fearing-displacement-villagers-take-to-streets-against-malir-expressway>  
You can found Annex D, where singed rejection of proposed project by locals villagers, direct and indirect affectees.
- The EIA states that a Land Acquisition and Resettlement Plan (LARP) should be prepared (see para 451) to compensate and resettle people. In the past, the GoS has reneged on providing resettlement and rehabilitation to evictees of operations and projects at Karachi Circular Railway (KCR), Gujjar and Orangi Nullahs. There is no assurance from the state that they will not once again lapse on their promises of rehabilitation. Hence project affectees need to be engaged in urgent dialogue on resettlement. As natives of Malir, as local traditional farmers, and as people who identify as indigenous, laws that pertain to the special rights of such people should be reviewed. The GoS must first obtain free, prior and informed consent as to whether resettlement is even an agreeable option for these residents. International laws and policies pertaining to farmers' rights have not been discussed at all in the EIA document.

- **Only 10** days were given **to review EIA** for residents and concerned citizens, when SEPA with all its technical resources took 5 months. Residents of Malir, who the primary stakeholders of the project are and already face a language barrier are given no accessibility considerations in this public participation process. In fact, their participation is made functionally impossible due to time constraints and systemic barriers (of language, technical complexity).
- Nine local members of national and provincial assembly submitted a letter to Chief Minister Sindh on the negative impact of the current design of the project and requested a route change. The letter serves as evidence that the local population does not support the project as the EIA claims. (Letter attached in Annex B)
- In Para 315 the “land use” of the area is wrongly described as residential, educational, industrial, and commercial. In Para 215, however, the EIA does mention agricultural use of the land. However, nowhere in the EIA is it stated what processes are involved to change existing land use to the one proposed by this project.

#### **4. Project is violating the EIA and EPA regulation itself**

- EIA needs to be done before the project has started. However, in this case the EIA is being conducted a year after work was started.
- The validity of SEPA itself is under question considering SEPC is not functional. SEPA’s standing under the provincial or local government is also under question.

#### **5. The environmental and transportation justification for the road project is extremely weak**

- Which demographics or areas residents or motorists is the expressway going to benefit most? Has there been a study done on the impact of heavy vehicles on the environment and the expressway itself. How much traffic congestion will this expressway avoid and divert from other roads of the city.
- The report does not include the additional transportation time and cost and the social cost of disconnecting the local population on both sides of the river bank. There are 13 main and link roads and 25 kacha roads that connect the local population on both sides of the bank, as the centuries old villages were formed on both sides of the bank due to the access of water the river brings. These roads and particularly kacha roads will be closed due to the construction of the project, the negative impact of which are both economic and social. The significant impact is not even discussed in the EIA, which weakens the argument of economic benefits that the project brings.

## **6. The impact on heritage sites not included in the report**

- The EIA does not identify any notified archeological site and instead posits that in case of a chance archeological site is discovered, then the project shall be halted immediately (paras 22, 570). In order to avoid irreparable and irreversible harm to our heritage sites, the GoS must utilize its laws (Sindh Cultural Heritage Preservation Act 1994, Antiquities Act 1975) and first conduct a thorough and detailed study of the area and then notify existing historic sites. Considering that the entire area of Malir and Gadap has a number of antiquities dating back to the 13th century with immeasurable cultural and monetary worth, the GoS has a legal obligation to preserve these sites which will be completely destroyed by MEX. This loss of cultural capital and history will be borne by future generations of Pakistan and indeed the rest of the world especially archeological academics and researchers. Pictorial evidence of some archeological sites that will be demolished due to the project is provided in Annex C.

## **7. The report fails to account for increased air and noise pollution due to greater traffic volumes in the area as a result of the project.**

- Ambient air quality measured using Laser Particle Multifunctional Detector and not Beta-Ray Absorption as mandated by Sindh Environmental Quality Standards 2016 (p.618 Environmental Testing Laboratory Test Report, Annex VIII – Monitoring Reports) and (p.71 All projects to be implemented in Sindh must conform to SEQs during all the phases i.e., construction and operation.)

## **8. The project fails to investigate alternate methods to achieve stated goals with minimal environmental and social impacts:**

- This EIA only mentions ideas and suggestions and no real solutions to the issues are mentioned.

## **9. Inadequate systems suggested to manage sewage and garbage produced along the route**

- No adequate waste management solutions are mentioned for the post-construction phase. No adequate sewage management or drainage solutions are mentioned for post construction phase

## **10. Path of seasonal river and stormwater**

- Part of the expressway is built on the riverbed. Although the report mentions that overhead bridges, and box and pipe culverts will be constructed to allow for the water to flow, this does not consider the structural integrity of these structures



during heavy urban floods. Additionally, has the integrity of the foundations of these structures within the riverbed been studied? The path of the river and storm water will be impacted causing the river to change paths, has that impact been considered? Additionally, the impact these structures will have on the ecology (flora and fauna) of the river has been glossed over.

## **11. Other objections to the EIA**

- Traffic Study Report does not provide adequate planning for increasing mass transit (Annex V), is basically for private motor vehicles, and also has no lane for motorcycles, rickshaws, or non-motorized transport.
- Grievance Redressal Mechanism, focal person not communicated
- Traffic Management Plan (TMP) is not available, EIA requires that it "will be under Contractor obligation to notify the traffic management plan and its later changes to CSC, WSD, emergency services and Traffic Police, and also publish weekly programme in the local newspaper." (p.742 Annex XIII – Guide Traffic Management Plan) and "A comprehensive Traffic Management Plan (TMP) will be developed by Contractor" (p.342)
- Quarry management plan is not available, EIA recommends "selection of a site, sequencing of quarrying and rehabilitation and final land-use should all be carefully planned prior to commencement of work." (p.769 Annex XVIII – Quarry Management Plan)

## Annex A: List of Bird and Butterfly Species identified at only one location of the project site

Sr.#	Birds Species
1	Rock Pigeon <i>Columba livia</i>
2	Laughing Dove <i>Streptopelia senegalensis</i>
3	Black-winged Stilt <i>Himantopus himantopus</i>
4	Yellow-wattled Lapwing <i>Vanellus malabaricus</i>
5	Red-wattled Lapwing <i>Vanellus indicus</i>
6	Little Stint <i>Calidris minuta</i>
7	Common Sandpiper <i>Actitis hypoleucos</i>
8	Green Sandpiper <i>Tringa ochropus</i>
9	Great Egret <i>Ardea alba</i>
10	Cattle Egret <i>Bubulcus ibis</i>
11	Indian Pond-Heron <i>Ardeola grayii</i>
12	Steppe Eagle <i>Aquila nipalensis</i>
13	Shikra <i>Accipiter badius</i>
14	Black Kite <i>Milvus migrans</i>
15	Isabelline Shrike <i>Lanius isabellinus</i>
16	Plain Prinia <i>Prinia inornata</i>
17	Common Babbler <i>Argya caudata</i>
18	Purple Sunbird <i>Cinnyris asiaticus</i>
19	Little Egret <i>Egretta garzetta</i>
20	Egyptian Vulture <i>Neophron percnopterus</i>
21	Bonelli's Eagle <i>Aquila fasciata</i>
22	Green-winged Teal <i>Anas crecca</i>
23	Yellow-footed Green-Pigeon <i>Treron phoenicopterus</i>
24	Black-bellied Plover <i>Pluvialis squatarola</i>
25	Black-headed Gull <i>Chroicocephalus ridibundus</i>
26	Black Stork <i>Ciconia nigra</i>
27	Black-winged Kite <i>Elanus caeruleus</i>
28	Greater Spotted Eagle <i>Clanga clanga</i>
29	Eurasian Sparrowhawk <i>Accipiter nisus</i>
30	Rufous-fronted Prinia <i>Prinia buchanani</i>
31	Red-vented Bulbul <i>Pycnonotus cafer</i>
32	White-eared Bulbul <i>Pycnonotus leucotis</i>
33	Black Redstart <i>Phoenicurus ochruros</i>
34	Little Swift <i>Apus affinis</i>
35	White-tailed Lapwing <i>Vanellus leucurus</i>
36	Gull-billed Tern <i>Gelochelidon nilotica</i>

37	Whiskered Tern <i>Chlidonias hybrida</i>
38	River Tern <i>Sterna aurantia</i>
39	Western Reef-Heron <i>Egretta gularis</i>
40	Booted Eagle <i>Hieraaetus pennatus</i>
41	Barn Swallow <i>Hirundo rustica</i>
42	Common Myna <i>Acridotheres tristis</i>
43	Asian Koel <i>Eudynamys scolopaceus</i>
44	Little Ringed Plover <i>Charadrius dubius</i>
45	Ruff <i>Calidris pugnax</i>
46	Temminck's Stint <i>Calidris temminckii</i>
47	Marsh Sandpiper <i>Tringa stagnatilis</i>
48	Great Cormorant <i>Phalacrocorax carbo</i>
49	Gray Heron <i>Ardea cinerea</i>
50	Brahminy Kite <i>Haliastur indus</i>
51	Long-legged Buzzard <i>Buteo rufinus</i>
52	White-throated Kingfisher <i>Halcyon smyrnensis</i>
53	Pied Kingfisher <i>Ceryle rudis</i>
54	Green Bee-eater <i>Merops orientalis</i>
55	Eurasian Kestrel <i>Falco tinnunculus</i>
56	Black Drongo <i>Dicrurus macrocercus</i>
57	House Crow <i>Corvus splendens</i>
58	Crested Lark <i>Galerida cristata</i>
59	Common Tailorbird <i>Orthotomus sutorius</i>
60	Bank Swallow <i>Riparia riparia</i>
61	Common Chiffchaff <i>Phylloscopus collybita</i>
62	Lesser Whitethroat <i>Curruca curruca</i>
63	Jungle Babbler <i>Argya striata</i>
64	Indian Robin <i>Copsychus fulicatus</i>
65	Indian Silverbill <i>Euodice malabarica</i>
66	House Sparrow <i>Passer domesticus</i>
67	White Wagtail <i>Motacilla alba</i>
68	Common Snipe <i>Gallinago gallinago</i>
69	Little Cormorant <i>Microcarbo niger</i>
70	Eurasian Hoopoe <i>Upupa epops</i>
71	Delicate Prinia <i>Prinia lepida</i>
72	Western Yellow Wagtail <i>Motacilla flava</i>
73	Citrine Wagtail <i>Motacilla citreola</i>
74	Red-backed Shrike <i>Lanius collurio</i>
75	Gadwall <i>Mareca strepera</i>
76	Common Kingfisher <i>Alcedo atthis</i>

77	Paddyfield Pipit <i>Anthus rufulus</i>
78	Eurasian Collared-Dove <i>Streptopelia decaocto</i>
79	Wood Sandpiper <i>Tringa glareola</i>
80	Spotted Redshank <i>Tringa erythropus</i>
81	Common Greenshank <i>Tringa nebularia</i>
82	Indian Roller <i>Coracias benghalensis</i>
83	Bay-backed Shrike <i>Lanius vittatus</i>
84	Long-tailed Shrike <i>Lanius schach</i>
85	Rosy Starling <i>Pastor roseus</i>
86	Zitting Cisticola <i>Cisticola juncidis</i>
87	Eurasian Wigeon <i>Mareca penelope</i>
88	Mallard <i>Anas platyrhynchos</i>
89	Gray Francolin <i>Ortygornis pondicerianus</i>
90	Little Grebe <i>Tachybaptus ruficollis</i>
91	Imperial Eagle <i>Aquila heliaca</i>
92	Common Redshank <i>Tringa totanus</i>
93	Bluethroat <i>Luscinia svecica</i>
94	Eurasian Spoonbill <i>Platalea leucorodia</i>
95	Bank Myna <i>Acridotheres ginginianus</i>
96	Eurasian Hobby <i>Falco subbuteo</i>
97	Garganey <i>Spatula querquedula</i>
98	Pallid Swift <i>Apus pallidus</i>
99	Black-tailed Godwit <i>Limosa limosa</i>
100	Glossy Ibis <i>Plegadis falcinellus</i>
101	Ashy-crowned Sparrow-Lark <i>Eremopterix griseus</i>
102	Gray-throated Martin <i>Riparia chinensis</i>
103	Red-rumped Swallow <i>Cecropis daurica</i>
104	Great Gray Shrike <i>Lanius excubitor</i>
105	Kentish Plover <i>Charadrius alexandrinus</i>
106	Caspian Tern <i>Hydroprogne caspia</i>
107	Dalmatian Pelican <i>Pelecanus crispus</i>
108	Intermediate Egret <i>Ardea intermedia</i>
109	Rose-ringed Parakeet <i>Psittacula krameri</i>
110	Pied Avocet <i>Recurvirostra avosetta</i>
111	Rufous-tailed Scrub-Robin <i>Cercotrichas galactotes</i>
112	White-browed Wagtail <i>Motacilla maderaspatensis</i>
113	Great White Pelican <i>Pelecanus onocrotalus</i>
114	Oriental Honey-buzzard <i>Pernis ptilorhynchus</i>
115	Eurasian Marsh-Harrier <i>Circus aeruginosus</i>
116	Eurasian Wryneck <i>Jynx torquilla</i>

117	Eastern Orphean Warbler <i>Curruca crassirostris</i>
118	Lesser Sand-Plover <i>Charadrius mongolus</i>
119	Rufous Treepie <i>Dendrocitta vagabunda</i>
120	Variable Wheatear <i>Oenanthe picata</i>
121	Curlew Sandpiper <i>Calidris ferruginea</i>
122	Striated Heron <i>Butorides striata</i>
123	Black-headed Bunting <i>Emberiza melanocephala</i>
124	Chestnut-bellied Sandgrouse <i>Pterocles exustus</i>
125	Pied Cuckoo <i>Clamator jacobinus</i>
126	White-eyed Buzzard <i>Butastur teesa</i>
127	Rock Eagle-Owl <i>Bubo bengalensis</i>
128	Red Collared-Dove <i>Streptopelia tranquebarica</i>
129	Eurasian Moorhen <i>Gallinula chloropus</i>
130	European Roller <i>Coracias garrulus</i>
131	Scaly-breasted Munia <i>Lonchura punctulata</i>
132	Red-headed Bunting <i>Emberiza bruniceps</i>
133	Pied Bushchat <i>Saxicola caprata</i>
134	White-breasted Waterhen <i>Amaurornis phoenicurus</i>
135	Yellow-bellied Prinia <i>Prinia flaviventris</i>
136	Clamorous Reed Warbler <i>Acrocephalus stentoreus</i>
137	Streaked Weaver <i>Ploceus manyar</i>
138	Painted Stork <i>Mycteria leucocephala</i>
139	Yellow-throated Sparrow <i>Gymnoris xanthocollis</i>
140	Common Quail <i>Coturnix coturnix</i>
141	Lesser Black-backed Gull <i>Larus fuscus</i>
142	Northern Shoveler <i>Spatula clypeata</i>
143	White-browed Fantail <i>Rhipidura aureola</i>
144	Tree Pipit <i>Anthus trivialis</i>
145	Striated Babbler <i>Argya earlei</i>
146	Isabelline Wheatear <i>Oenanthe isabellina</i>
147	Tawny Pipit <i>Anthus campestris</i>
148	Brown-headed Gull <i>Chroicocephalus brunnicephalus</i>
149	Greater Coucal <i>Centropus sinensis</i>
150	Common Hawk-Cuckoo <i>Hierococcyx varius</i>
151	Eurasian Nightjar <i>Caprimulgus europaeus</i>
152	Spotted Owlet <i>Athene brama</i>
153	Eurasian Skylark <i>Alauda arvensis</i>
154	Red-breasted Flycatcher <i>Ficedula parva</i>
155	Siberian Stonechat <i>Saxicola maurus</i>
156	Water Pipit <i>Anthus spinoletta</i>

157	Common Crane <i>Grus grus</i>
158	Indian White-eye <i>Zosterops palpebrosus</i>
159	Common Buzzard <i>Buteo buteo</i>
160	Indian Paradise-Flycatcher <i>Terpsiphone paradisi</i>
161	Oriental Skylark <i>Alauda gulgula</i>
162	Ashy Prinia <i>Prinia socialis</i>
163	Paddyfield Warbler <i>Acrocephalus agricola</i>
164	Blyth's Reed Warbler <i>Acrocephalus dumetorum</i>
165	Pale Sand Martin <i>Riparia diluta</i>
166	Greenish Warbler <i>Phylloscopus trochiloides</i>
167	Caspian Gull <i>Larus cachinnans</i>
168	Short-toed Snake-Eagle <i>Circaetus gallicus</i>
169	Tawny Eagle <i>Aquila rapax</i>
170	Black-rumped Flameback <i>Dinopium benghalense</i>
171	Desert Wheatear <i>Oenanthe deserti</i>
172	Alexandrine Parakeet <i>Psittacula eupatria</i>
173	Spotted Flycatcher <i>Muscicapa striata</i>
174	Slender-billed Gull <i>Chroicocephalus genei</i>
175	Common Woodshrike <i>Tephrodornis pondicerianus</i>
176	Rufous-tailed Rock-Thrush <i>Monticola saxatilis</i>

List of Butterflies species found within the range of Project area.

S.No.	Species Name	Scientific Name
1	Common Rose	<i>Pachliopta aristolochiae</i>
2	Lime Butterfly	<i>Papilio demoleus</i>
3	Common Mormon	<i>Papilio polytes</i>
	Clouded Yellows	<i>Colias</i>
4	Spotless Grass Yellow	<i>Eurema laeta</i>
5	Common Grass Yellow	<i>Eurema hecabe</i>
6	Psyche	<i>Leptosia nina</i>
7	Small Cabbage White	<i>Pieris rapae</i>
8	Desert Bath White	<i>Pontia glauconome</i>
9	Large Salon Arab	<i>Colotis fausta</i>
10	Small Salmon Arab	<i>Colotis amata</i>
11	Blue-Spotted Arab	<i>Colotis protractus</i>
12	White Arab	<i>Colotis vestalis</i>
13	Little Orangetip	<i>Colotis etrida</i>
14	Crimson tip	<i>Colotis danae</i>
15	White Orangetip	<i>Ixias marianne</i>
16	Yellow Orangetip	<i>Ixias pyrene</i>

17	Common Albatross	<i>Appias albina</i>
18	Pioneer White	<i>Belenois aurota</i>
19	Common (or Lemon) Emigrant	<i>Catopsilia pomona</i>
20	Mottled Emigrant	<i>Catopsilia pyranthe</i>
21	Zebra Blue	<i>Leptotes plinius</i>
22	Pointed Ciliate Blue	<i>Anthene lycaenina</i>
23	Tailless Line Blue	<i>Prosotas duboisa</i>
24	Pea Blue	<i>Lampides boeticus</i>
25	Gram Blue	<i>Euchrysops cnejus</i>
26	Plains Cupid	<i>Luthrodes pandava</i>
27	Small Cupid	<i>Chilades parrhasius</i>
28	Forget-me-not	<i>Catochrysops starbo</i>
29	Black-spotted Pierrot	<i>Tarucus balkanicus</i>
30	Indian Pierrot	<i>Tarucus indica</i>
31	Spotted Pierrot	<i>Tarucus nara</i>
32	Striped Pierrot	<i>Tarucus callinara</i>
33	Tiny Grass Blue	<i>Ziula hylax</i>
34	Lesser Grass Blue	<i>Zizina otis</i>
35	Dark Gras Blue	<i>Zizeeria karsandra</i>
36	African Grass Jewel	<i>Freyeria trochylus</i>
37	Small Grass Jewel	<i>Freyeria putli</i>
38	Dull Babul Blue	<i>Azanus uranus</i>
39	Bright Babul Blue	<i>Azanus ubaldus</i>
40	Common Copper	<i>Lycaena phlaeas</i>
41	Scarce Shot Silverline	<i>Spindasis elima</i>
42	Tawny Silverline	<i>Cigaritis acama epargyros</i>
43	Indian Red Flash	<i>Rapala iarbus</i>
44	Common Guava Blue	<i>Virachola isocrates</i>
45	Plain Tiger	<i>Danaus chrysippus</i>
46	Common/Striped Tiger	<i>Danaus genutia</i>
47	Blue Tiger	<i>Tirumala limniace</i>
48	Common Crow	<i>Euploea core</i>
49	Common Evening Brown	<i>Melanitis leda</i>
50	Common Three-ring	<i>Ypthima asterope</i>
51	Joker Butterfly	<i>Byblia ilithyia</i>
52	Common Leopard	<i>Phalanta phalantha</i>
53	Tropical Fritillary	<i>Argynnis hyperbius</i>
54	Painted Lady	<i>Vanessa cardui</i>
55	Lemon Pansy	<i>Junonia lemonias</i>
56	Yellow Pansy	<i>Junonia hierta</i>

57	Blue Pansy	Junonia orithya
58	Peacock Pansy	Junonia almana
59	Danaid Eggfly	Hypolimnas misippus
60	Great Eggfly	Hypolimnas bolina
61	Tawny Coster	Acraea violae
62	Brown Awl	Badamia exclamationis
63	Common Banded Awl	Hasora chromus
64	African Straight Swift	Parnara bada
65	White-braned Swift	Pelopidas thrax
66	Dark Branded Swift	Pelopidas mathias
67	Bevan`s Swift	Pseudoborbo bevani
68	Dingy Swift	Gegenes nostrodamus
69	Spotted Small Flat	Sarangesa purendra
70	Indian Grizzled Skipper	Spialia galba
71	Sindhi Skipper	Spialia doris
72	African Marbled Skipper	Gomalia elma
73	Indian Palm Bob	Suastus gremius

Sr.#	Mamal Species
1	White-footed Fox ( <i>Vulpes vulpes pusilla</i> )
2	Jungle cat ( <i>Felis chaus</i> )
3	Golden jackal ( <i>Canis aureus</i> )
4	Small Indian Civet ( <i>Viverricula indica</i> )
5	Indian crested porcupine ( <i>Hystrix indica</i> )
6	Indian Hare ( <i>Lepus nigricollis</i> )
7	Small Indian Mongoose ( <i>Urva auropunctata</i> )
8	Indian Grey Mongoose ( <i>Urva edwardsii</i> )
9	Indian hedgehog ( <i>Paraechinus micropus</i> )
10	Indian Desert Jird ( <i>Meriones hurrianae</i> )
Sr. #	Amphibians & Reptiles Species
1	Indian cobra ( <i>Naja naja</i> )
2	Saw-scaled Viper (genus <i>Echis</i> )
3	Russell's Viper ( <i>Daboia russelii</i> )
4	Sindhi Krait ( <i>Bungarus sindanus</i> )
5	Common Wolf Snake ( <i>Lycodon aulicus</i> )
6	Russell's Kukri ( <i>Oligodon taeniolatus</i> )
7	Rough-Scale Sand Boa ( <i>Gongylophis conicus</i> )
8	Indian spiny-tailed Lizard ( <i>Saara hardwickii</i> )
9	Oriental Garden Lizard ( <i>Calotes versicolor</i> )
10	Minor Snake-eyed Skink ( <i>Ablepharus grayanus</i> )
11	Bengal monitor ( <i>Varanus bengalensis</i> )



12	Indian fringe-fingered lizard ( <i>Acanthodactylus cantoris</i> )
13	Common sun skink ( <i>Eutropis multifasciata</i> )
14	Common Leopard Gecko ( <i>Eublepharis macularius</i> )
15	Marbled Toad ( <i>Bufo stomaticus</i> )

## Annex B: Letter of Local Representatives to Chief Minister Sindh on the Project Design

To,

Syed Murad Ali Shah,  
Honorable Chief Minister Sindh.

**SUBJECT: REQUEST FOR CHANGE THE ROUTE OF MALIR EXPRESSWAY FROM MALIR RIVER RIGHT BANK TO LEFT BANK.**

Dear Syed Murad Ali Shah,


With reference to above mentioned subject, it is to bring to your kind notice that We, the representatives of District Malir had a combined meeting regarding subject mentioned above and it is to state here that the current proposed route on right bank of Malir Expressway will demolish the oldest villages of the area.

That the approved route of Malir Expressway will also destroy the Green belt and agricultural land existing in District Malir. Whereas the current route will convert the indigenous people of the area into a minority and displacing thousands of them after demolishing their villages.


We would like to also state hereby that considering the compensation of private land the Government will have to pay more than 5 billion rupees but if route is changed from right bank to left bank, about 4 billion rupees of Government money will be saved.

We hereby request your honor to consider the content of this letter and direct the concerned for the change of the route of Malir Expressway from Malir River right bank to left bank in order to facilitate the indigenous people of the area.

Thanking You in Anticipation.




M. Sajid Jokhio Minister




Syed Agha Rafiullah MNA



Jam Abdul Karim Jokhio MNA




M. Saleem Baloch MPA



Mehmood Alam Jamot MPA




Raja Abdul Razzaq MPA



M. Yousuf Murtaza Baloch MPA



Shaheena Sher Ali MPA



Abdul Hakeem Baloch Ex-MNA

**Annex C: Examples of heritage sites that will be demolished as a result of the project**





# Annex D: Signature of direct and indirect affectees of Malir Expressway.

ہم اہلیانِ ملیر اور متاثرینِ ملیر ایکسپریس وے فسلک دستاویز سے متعلق ہیں اور سندھ الائنڈ نمینٹل پروڈکشن ایجنسی (سپا) سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ملیر ایکسپریس وے کے منصوبے پر نظر ثانی کرے جو نہ صرف ملیر کی عوام، لیبر ڈمکانات و زمینوں اور ذراعت کو اثر انداز کر رہا ہے بلکہ پورے کراچی کے ماحول کے لئے تباہ کن ثابت ہوگا۔

نام	شناختی کارڈ نمبر	دستخط
عبدالوحید	42501-2624567-3	عبدالوحید
شمس الدین علی	42501-8770663-5	شمس الدین علی
حمسو	42501-7427224-7	حمسو
نظام الدین	42501-1754118-3	نظام الدین
الہم بھائیو	42501-2201208-3	الہم بھائیو
ایاز علی	42501-9065084-7	ایاز علی
محمد بخش	42501-0287401-3	محمد بخش
عبدالغفار	42501-5453063-9	عبدالغفار
عبد اقبال	42501-4349836-1	عبد اقبال
بابو	42501-5636820-3	بابو
رضا محمد	42501-1523976-5	رضا محمد
عبدالرحمن	42501-0377200-9	عبدالرحمن
خالد	42501-9200592-9	خالد
نامہ علی	42501-3765609-3	نامہ علی
محمد عامر	42501-5213682-5	محمد عامر
محمد اکرم	42501-637639-1	محمد اکرم
محمد عثمان	42501-3033406-6	محمد عثمان
نثار احمد	42501-7846999-1	نثار احمد
قادر بخش	42501-0461655-9	قادر بخش
محمد نصیر	42501-0513878-3	محمد نصیر
سلطان	42501-8470871-1	سلطان

ہم اہلکارانِ ملیر اور متاثرینِ ملیر ایکسپریس وے سسٹم کے متعلق ہیں اور سندھ الٹرا فاسٹ پروڈکشن اینجینی (سیپا) سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ملیر ایکسپریس وے کے منصوبہ پر نظر ثانی کرے جو نہ صرف ملیر کی عوام، لیکن ڈسکانت و زمینوں اور زراعت کو اثر انداز کر رہا ہے بلکہ پورے کراچی کے ماحول کے لئے تباہ کن ثابت ہوگا۔

رقعہ	رقعہ نمبر	نام
42501-5121476-9	محمد اسلم جوگھو	1
42501-9504888-3	اختر علی جوگھو	2
42501-8033788-5	مشتاق علی جوگھو	3
42501-3283957-7	محمد عامر ولد محمد اسلم	4
42501-8104810-3	راجہ شاہد بھان اسلم	5
42501-3247840-1	امیر بخش حسین	6
42501-5587844-7	علی محمد احمد	7
42501-7961138-5	عبد الشکور احمد	8
42501-3200224-5	غلام شبیر احمد	9
42501-7740943-1	احمد علی محمد	10
42501-6238469-5	محمد قیوم	11
42501-9849164-3	ممتاز علی	12
42501-2515178-9	ظہیر احمد	13
42501-8862217-3	(مولانا غلام)	14
42501-9692928-7	عباس علی	15
42501-1540470-5	لونا محمد ریاض بخش	16
42501-2506782-1	رستم	17
42501-5384952-1	محبیب	18
42501-8020928-9	دلور محمد جوگھو	19
42501-9567195-3	مختار علی	20
42501-1204024-3	جمیل احمد	21
42501-3264756-5	علی بخش	22
42501-5078806-9	طارق احمد	23
42501-6266493-3	لویہ سن	24
42501-6957599-5	عبدالعزیز	25
42501-0576386-3	عبدالرشید	26
42501-3246890-1	گلزار	27
42501-1533205-1	شبیر احمد جوگھو	28
42501-3745222-9	جاوید علی	29



نام	شماره کارنامه	دستخط
محمد منیر	42501-1524370-7	
عامر خان	42501-4965361-7	
گل محمد ملیر	42501-5525768-7	
عبد القیوم	42501-2388788-3	
امان اللہ	42501-1594650-5	
ناصر علی	42501-9932729-7	
لعل محمد	42501-9750650-5	
مہتاب محمد	42501-16041827	
عبد القادر	42501-1534635-5	
منظور احمد	42501-1392753-3	
مشتاق احمد	42501-1584368-7	
محمد نعیم	42501-1096773-7	
میر دوست	42501-8705771-3	
عبد القادر	42501-1409834-5	
محمد علی بلوچ	42501-0319164-3	
محمد سلیم	42501-1607057-5	
کرشن چند کارو	42501-1596718-7	

ہم الیہاں میٹر اور سٹریٹن میٹر ایکسپریس وے شلک دستاویز سے متفق ہیں اور سندھ الیٹرنیٹل پروڈکشن اینجینی (سیپا) سے مطالبہ کرتے ہیں کہ میٹر ایکسپریس وے کے منصوبے پر نظر ثانی کرے جو نہ صرف میٹر کی عوام، لیڈر و مکانات و زمینوں اور زراعت کو اثر انداز کر رہا ہے بلکہ پورے کراچی کے ماحول کے لئے تباہ کن ثابت ہوگا۔

نام	باقی کارڈ نمبر	دستخط
روشن علی	42501-1563145-7	سید علی
نبی بخش	42501-1661036-1	سید نبی
علی بخش	42501-1589768-9	سید علی
نواز علی	42501-5943674-5	سید نواز
محمد اسماعیل	42501-8995035-5	سید محمد
محمد حسین	42501-0658755-1	سید محمد
زائد حسین	42501-4520597-3	سید زائد
عقیل احمد	42501-8437311-5	سید عقیل
محمد	42501-1584416-9	سید محمد
عبد الناصر	52101-8958524-3	سید عبد الناصر
محمد خلیل	42501-1604788-1	سید محمد
جمال خان	42501-1288482-3	سید جمال
عبد المجید	42501-3158575-9	سید عبد المجید
عبد الوہاب	42501-3186749-7	سید عبد الوہاب
حمید	42501-2952081-8	سید حمید
عبد الرحیم	43406-0371099-1	سید عبد الرحیم
لال خان	42501-8027960-6	سید لال خان
میر حسن	43402-0402247-9	سید میر حسن
جعفر حسین	43203-8986687-7	سید جعفر حسین
محمد طارق	42501-1564129-3	سید محمد طارق
محمد حبیب شاہ	42501-1808873-1	سید محمد حبیب شاہ
الکلی بخش	42501-7772824-1	سید الکلی بخش
احسان علی	43406-0435861-9	سید احسان علی
محمد سلمان	42501-3343070-1	سید محمد سلمان
محمد اسلام	43206-2090938-7	سید محمد اسلام
محمد اعجاز	42501-0331295-3	سید محمد اعجاز
ولیا محمد	42501-3425968-5	سید ولیا محمد
سکندر علی	42501-4323916-5	سید سکندر علی
منیر احمد	42501-4755464-7	سید منیر احمد



ہم اہلیانِ بلیر اور متاثرینِ بلیر ایکسپریس دے منسلک دستاویز سے متعلق ہیں اور سندھ الیونر کمیشنل پروٹیکشن ایجنسی (سیپا) سے مطالبہ کرتے ہیں کہ بلیر ایکسپریس دے کے منصوبہ پر نظر ثانی کرے جو نہ صرف بلیر کی عوام، بلیر ڈمکانات و زمینوں اور ذراعت کو اثر انداز کر رہا ہے بلکہ پورے کراچی کے ماحول کے لئے تباہ کن ثابت ہو گا۔

دستخط	فائنل کارڈ نمبر	نام
M. Ali	42501-1421901-1	Muhammad Rehman
	70242-5100010-1	MUHAMMAD AYUB
	03343874002	Habib Babch
Ali Nawaz	03352188687	Ali Nawaz Baloch
	03333407509	Hayat Baloch
	42501-1613970-9	Muhammad Asla
	42501-5752814-1	Amir
	42501-28456901	Shah Zaid
	42501-65408465	Khan Muhammad
	42501-56846071	Bilal
	42501-95099129	Wajid Ali
	42501-08552885	Zahid Ali
Ali Hassan	42501-3644771-3	Ali Hassan
	42501-3125135-3	Khair Mohammad
M. Sohail	42501-6499537-5	Muhammad Sohail
عبدالرحمن	42501-6012710-9	عبدالرحمن
نام	42501-1580755-1	نام
Samir	42501-0514385-7	Samir
	42501-1462879-1	عبدالستار
عسکری	42000-3576077-9	عسکری
Rauf	42501-9068006-1	A. Rauf
Xasir	42501-0869564-7	محمد یاسر
M. Iqbal	42501-6264042-1	محمد اسحاق بلوچ
M. B. Rahman	42501-5048286-9	محمد البرہان
Siddiq	42501-0390090-7	M. Siddiq
M. Iqbal	90402-0110396-9	M. Iqbal
محمد صالح	42501-8328520-9	محمد صالح



ہم اہلایانِ طبر اور متاثرینِ طبر ایکسپریس دے مشک و دستاویز سے متعلق ہیں اور سندھ انوار نمونہ پر وکیشن اینجینی (سیپا) سے مطالبہ کرتے ہیں کہ طبر ایکسپریس دے کے منصوبے پر نظر ثانی کرے جو نہ صرف طبر کی عوام، لیڈر و مکانات و زمینوں اور ذراعت کو اثر انداز کر رہا ہے بلکہ پورے کراچی کے ماحول کے لئے تباہ کن ثابت ہوگا۔

نام	شناختی نمبر	دستخط
عبدالواحد	42501-1436442-3	دستخط
محمد اسحاق	42501-1544701-3	دستخط
عبدلحمید	42501-1505410-5	دستخط
عبدالرزاق	42501-1571724-9	دستخط
محمد کینیف	42501-1438933-3	دستخط
امجد حسین	42501-7900173-9	دستخط
عبدالصمد	42501-0720336-7	دستخط
نواز علی	42501-1429134-5	دستخط
عبدالغفار	42501-2583239-3	دستخط
بلال احمد	42501-0430923-5	دستخط
محمد عظیم	42501-1422583-5	دستخط
امیر حمزہ	42501-3511486-7	دستخط
فہرین احمد	42501-4014325-7	دستخط
جاسم	42501-5714641-9	دستخط
وانید رضا	42501-7926173-5	دستخط
گوہر بی بی	42501-5889179-2	دستخط
خدا	42501-7750866-1	دستخط
سہما	42501-11773140-6	دستخط
علی محمد	42501-0426972-3	دستخط
نہیر احمد	441-0362184247	دستخط
نویہ	42501-9989142-3	دستخط
وحید	42501-3915735-9	دستخط
محمد فارس	42501-2862981-5	دستخط
سلمان	42501-0142005-5	دستخط
نویہ	42501-9924880-3	دستخط
ناج محمد	42501-1550159-3	دستخط
عبدالستار	42501-0237243-5	دستخط
محمد جاوید	42501-1694442-9	دستخط
محمد یعقوب	42501-1594701-9	دستخط
محمد یعقوب	42501-1544701-9	دستخط

ہم اہلیانِ لیبر اور متاثرینِ لیبر ایکسپریس دے شملک دستاویز سے متفق ہیں اور سندھ انوار نمٹل پروڈکشن ایجنسی (سیپا) سے مطالبہ کرتے ہیں کہ لیبر ایکسپریس دے کے منصوبے پر نظر ثانی کرے جو نہ صرف لیبر کی عوام، لیبر ڈسکانٹ و زمینوں اور ذراعت کو اثر انداز کر رہا ہے بلکہ پورے کراچی کے ماحول کے لئے تباہ کن ثابت ہو گا۔

نام	شناختی نمبر	دستخط
دلیر محمد	42501-3425768-5	وہد
محمد طارق	42501-1564129-3	M. Tariq
عامر خان	42501-4965361-7	
اسول بخش	42501-1238722-1	
محمد اشفاق	42501-9646829-1	
محمد اعجاز	42501-0331795-3	ایسی
گل شیر	42501-8658222-7	
سعید حسن	42501-3258798-9	ہدیر
مراد سعید	42501-463583-5	مشار
مظور علی	43206123855-7	مکھڑ
مصوب علی	4340-60365563-9	مصوب علی
گل زمان	45501-1903720-9	Al Zaman
سعید مشتاق	43501-1875908-1	
ایاز علی بروہی	434060412171-7	ایاز
مفتی راجہ	432064431659-5	مفتی
عبدالصبار	43501-37657853	صبار
عنبر الوند	42501-4024821-7	عنبر الوند
علیہ الرحمٰن	42501-6647914-7	علیہ الرحمٰن
علیہ الرحمٰن	42801-2827394-3	علیہ الرحمٰن
مولانا بخش	42501-14614405	مولانا بخش
شوکت علی	42501-0619172-3	شوکت علی
شہزاد احمد	42501-42754255	شہزاد احمد
عبدالمہد	42501-1536506-3	عبدالمہد
محبیب الرحمن	42501-1547988-3	محبیب الرحمن
محمد یوسف	42501-1727085-5	محمد یوسف
عبدالغفور	42501-5953280-5	عبدالغفور
شیر محمد	42501-7236999-9	شیر محمد
علی نواز بلوچ	42501-1554826-5	علی نواز بلوچ
محمد یوسف	42501-8778935-9	محمد یوسف



ہم اہلیانِ ملیہ اور مسٹرینِ ملیہ ایکپرس دے سنسک و ستاد سے متفق ہیں اور سندھ انوارِ نمٹل پر دیکشن اینجی (ہیپا) سے مطالب کرتے ہیں کہ ملیہ ایکپرس دے کے منصوبہ پر نظر ثانی کرے جو نہ صرف ملیہ کی عوام، لیڈر، مکانات و زمینوں اور ذراعت کو اثر انداز کر رہا ہے بلکہ پورے کراچی کے ماحول کے لئے تباہ کن ثابت ہوگا۔

رقم	اسم المالك	رقم
عمران	41801-0643789-7	محمد حسن
بیتو	42501-1652270-1	عبدالمجید
عبدالمجید	52205-3093060-5	علی مراد
علی مراد	42501-1926476-3	غلام عباس
غلام عباس	43406-0367537-9	رمیم بخشین
رمیم بخشین	42501-5956962-3	اکرم بخشین
اکرم بخشین	4250159390995	وکیل مراد
وکیل مراد	4250-0314690-9	لطیفہ احمد
لطیفہ احمد	42501-3639520-5	محمد حسین
محمد حسین	42501 1306175-5	
	42501-7102531-9	
	42501 4761369-5	
	42501-7398851-1	
	42501-1587786-7	
	42201-8239932-3	
	42201-8249337-3	
	42201-8333887-3	
	42201-0277756-9	

ہم اہلِ ایمان، ملیر اور مٹاثرین، ملیر ایکسپریس کے مشکب دستاویز سے متفق ہیں اور سندھ انوار نمونہل پر وکیشن اینجین (سینپا) سے مطالبہ کرتے ہیں کہ میرا ایکسپریس سے کے منصوبے پر نظر ثانی کرے جو نہ صرف ملیر کی عوام، ایلیز و مکانات و زمینوں اور زراعت کو اثر انداز کر رہا ہے بلکہ پورے گراچی کے ماحول کے لئے تباہ کن ثابت ہوگا۔

رقم	نام و نام خانوادگی	شماره سند
42501-5057213-5	مهدیاب حسین	42501-5057213-5
42501-6646336-3	محمد رفیق	42501-6646336-3
42501-3722171-7	قادر بخش	42501-3722171-7
42501-0250691-1	طارق عزیز	42501-0250691-1
42000-0662067-5	عبدالواحد	42000-0662067-5
42501-8890611-5	محمد رفیق (خاصی)	42501-8890611-5
42501-4939002-9	عبداللطیف خاصی	42501-4939002-9
42501-8522672-7	ماسد علی	42501-8522672-7
42501-1595626-9	عبدالغنی	42501-1595626-9
42501-9900023-9	محمد نواز بلوچ	42501-9900023-9
42501-2732390-5	اسد احمد	42501-2732390-5
42501-2393384-9	محمد عثمان	42501-2393384-9
42501-1607594-1	عبدالحمید	42501-1607594-1
42101-1944762-9	نور احمد	42101-1944762-9
42501-3501176-7	جاوید احمد	42501-3501176-7
42501-1764794-7	رمیم بخش	42501-1764794-7
42501-3990292-5	اسد اللہ	42501-3990292-5
42501-8859931-7	سید یعقوب	42501-8859931-7
52203-0981217-5	محمد السکندر	52203-0981217-5
42501-1599106-1		42501-1599106-1



ہم اہل یان میر اور متاثرین میر ایکسپریس و سسٹمک و ستاد سے متعلق ہیں اور سندھ انوائزمنٹل پروڈکشن ایجنسی (سپیا) سے مطالبہ کرتے ہیں کہ تیرا پیسہ دے کے منصوبہ پر نظر ثانی کرے جو نہ صرف میر کی عوام، لیڈر مکانات و زمینوں اور ذراعت کو اثر انداز کر رہا ہے بلکہ پورے کراچی کے ماحول کے لئے تباہ کن ثابت ہو رہا ہے۔

نام	شناختی کارڈ نمبر	دستخط
عبداللہ	4250149795497	عبداللہ
حیدر	42501-30939797	حیدر
مدت	4250132068660	مدت
سعید ابوالو	4250175535304	سعید ابوالو
زاق محمد عبید	42501-08630665	زاق محمد عبید
محمد عبید زاق	425018116966-3	محمد عبید زاق
نور اللہ	42501907036-9	نور اللہ
امید	425017125894-2	امید
محمد اصمان	425012293121-3	محمد اصمان
محمد عمر	4250122930263	محمد عمر
غلام عباس	425013544309-4	غلام عباس
الہداد	42501-15243754	الہداد
عبدالکریم	4250163820305	عبدالکریم
میر	425011574374-1	میر
محمد علی	434060386119-3	محمد علی
محمد شمس	432065231019-1	محمد شمس
گل خان	434060375015-5	گل خان
نہ جی	42501-34435444	نہ جی
گل محمد	425011788482-7	گل محمد
حیدر	425012162394-7	حیدر
محمد انور	42501-34318379	محمد انور
غلام نبی	425014531377-3	غلام نبی
سکری	4250102402672	سکری
رحمت	42501875018-0	رحمت
روبینہ	4250183335310	روبینہ
سکری	4250122210838	سکری
ماروٹا	4250148861018	ماروٹا
بشیر	42501-48190404	بشیر
گل محمدی	4250107878180	گل محمدی

425010173890795-  
42501896552892-9

دادار  
ہوندر

ہم اہلیانِ طبر اور متاثرینِ طبر ایکسپریس دے مسلک دستاویز سے تعلق ہیں اور سندہ انوارِ غمشل پرومکشن ایجنسی (سینا) سے مطالبہ کرتے ہیں کہ میرا پیسہ دے دے  
منصوبہ پر نظر ثانی کرے جو نہ صرف طبر کی عوام، لیڈر مکانات و زمینوں اور ذرائع کو اثر انداز کر رہا ہے بلکہ پورے کراچی کے ماحول کے لئے تباہ کن ثابت ہو رہا ہے۔

نام	شناختی نمبر	دستخط
امجد علی	4250176045235	امجد علی
لعل بخش بی	4250176482912	لعل بخش بی
حسین احمد	4250104480165	حسین احمد
فتح محمد	4250130115159	فتح محمد
اسود	4250150796114	اسود
محمد خان	4250146359803	محمد خان
اشیرہ	4250150791054	اشیرہ
عبدالستار	4250180785635	عبدالستار
عبدالوہاب	4320662888927	عبدالوہاب
انعام بخش	4250158462317	انعام بخش
زرین خان	4250162201914	زرین خان
عبدالرشید	4250189399253	عبدالرشید
قوت احمد	4250136846729	قوت احمد
محمد سلیمان	4250136940779	محمد سلیمان
سورجی - عورت	4250173447950	سورجی - عورت
دلدار	4250188985861	دلدار
نصیبہ	4250170873776	نصیبہ
محمد اسماعیل	4250128468341	محمد اسماعیل
محمد ابراہیم	4250140723409	محمد ابراہیم
ننگ	4250147490301	ننگ
گل	4250149372483	گل
سید بی بی	4250161734471	سید بی بی
زرین بی بی	4250186925502	زرین بی بی
غلام مصطفیٰ	4250195477870	غلام مصطفیٰ
یوسف خان	4250132512603	یوسف خان
فاطمہ	4250135436272	فاطمہ
شہزادہ	4250121632497	شہزادہ
منویر	4250160093566	منویر
عائزہ حسین	4250148729249	عائزہ حسین
زرینب	4340505903818	زرینب
دل مراد	4250157843043	دل مراد
کریم بی بی	4250129425998	کریم بی بی



تم اہلیان لیبر اور مٹریڈین لیبر ایکسپریس کے شملک دستاویز سے متفق ہیں اور سندھ انوار محفوظ پروٹیکشن ایجنسی (سپیا) سے مطالبہ کرتے ہیں کہ میرا پیسہ تیرے منصوبے پر نظر ثانی کرے جو نہ صرف لیبر کی عوام، لیبر و مکانات و زمینوں اور ذراعت کو اثر انداز کر رہا ہے بلکہ پورے کراچی کے ماحول کے لئے جان کنی ثابت ہو چکا۔

نام	شناختی نمبر	دستخط
دقیقہ الرحمان	42501-3948138-9	
مشیم محمد شفیع	42201-0811048-1	
نسر احمد بلوچ	42501-1200402-1	
ناگنر شفیع	42501-66120865	
محمد ان	42501-2956223-9	
محمد بہر بوق	42501-2108678-5	
ظریف	52101-83162711	
محمد فیصل	42501-5321936-5	
محمد امین	42501-1576265-3	
نسب بل	42501-5821336-7	
ابو بکر	42501-14932909	
مشتاق علی	42501-7782582.5	
شفیع محمد	42501-0171415-1	
محمد الرحمان	42501-2310960-5	
صدیر علی	42501-171515-1	
بہار	42501-470945-76	
مدان احمد بلوچ	42501-1593232-9	
محمد یعقوب	4501-1629565-7	
محمد علی خان	42501-95213619	
نثار احمد خان	42501-9222936-1	
حامی نثار احمد خان	4250133791899	
ابراہیم خاصہ جی	42501-9891387-5	
خاکر مراد خاصہ جی	42501-9828924-9	
احمد خاصہ جی	42501-12046658-9	
مبین احمد خاصہ جی	42501-6515042-7	
امیر بخش	42501-8188132-9	
عبدالرشید	42501-8119639-3	
شکیل احمد	42501-5230742-1	
میر نواب	42501-5280319-3	

ہم ایم ایف ایف اور میٹریٹس میٹر ایکسچینج کے منسلک دستاویز سے متعلق ہیں اور سندھ انوائز ٹریڈنگ پرومکشن ایجنسی (سیپا) سے مطالبہ کرتے ہیں کہ میٹریٹس میٹر کے منصوبے پر نظر ثانی کرے جو نہ صرف میٹر کی عوام، لیڈر مکانات و زمینوں اور زراعت کو اثر انداز کر رہا ہے بلکہ پورے کراچی کے ماحول کے لئے جان کنی ثابت ہو رہا ہے۔

نام	شناختی کارڈ نمبر	دستخط
محمد افریم	42501-1606970-1	
علی محمد	42501-0664144-3	
محمد شعیب	42501-0699437-5	
عبدالواسطہ ابن عبدالحکیم	42501-9755631-3	
سمیرا علی	42501-2236929-1	
عبدالولید	42501-5230821-9	
سرفراز طویل	42501-1086944-3	
عبدالمعز	42501-8519124-1	
علی نواز	42501-8519124-1	
بابر علی	52101-6846777-3	
عبدالحمید	42501-0629297-9	
ہارون بلوچ	42501-1427724-1	
اختر علی بلوچ	42201-2734318-9	
عبدالاسلم	42201-5669133-7	
عبدالسلام	42501-5176483-7	
محمد عثمان	42501-156476-9	
غلام اختر	42501-0546281-7	
جہان زیب	42501-6714856-3	
عبدالغنی	42501-13433299-7	
جمال ناصر بلوچ	42501-8628130-5	
عبدالواحد	42301-0968211-1	
اسلم رحیم دستگاری	42501-8638120-5	
فیصل حیدر	42501-555491-1	
دست محمد حسن شاہ	425013892466-9	
عبدالشکور	42501-5083785-9	
الہ ٹنو	42501-3490870-9	
عبدالعباس	42501-6778851-7	
عرفان سرور	42501-6844634-3	
رضا احمد	42501-64037535-9	



ہم اہل بیان طبر اور متاثرین طبر ایک سپر ریس دے شکستہ دستاویز سے متفق ہیں اور سندھ انوائز نمینٹل پروٹیکشن ایجنسی (سیپا) سے مطالبہ کرتے ہیں کہ میرا ایسپے۔ دے سے منصوبے پر نظر ثانی کرے جو نہ صرف طبر کی عوام، بلینڈ مکانات و زمینوں اور زراعت کو اثر انداز کر رہا ہے بلکہ پورے کراچی کے ماحول کے لئے تباہ کن ثابت ہو رہا ہے۔

رقم	تاريخ الميلاد	الاسم
42501-5537760-7	42501-5537760-7	Mr. Ahmad Pasha
425011795272-5	425011795272-5	Mr. Ahmad Pasha

نام اہلیان طبر اور متاثرین طبر ایکسپریس کے خشک دستاویز سے حقیق ہیں اور سندہ انوار نمٹل پروٹیکشن ایجنسی (سیپا) سے مطالبہ کرتے ہیں کہ طبر ایکسپریس کے منصوبہ پر نظر ثانی کرے جو صرف طبر کی عوام، لیز و مکانات و زمینوں اور زراعت کو اثر انداز کر رہا ہے بلکہ پورے کراچی کے ماحول کے لئے تباہ کن ثابت ہوگا۔

نام	شناختی کارڈ نمبر	دستخط
Dust mahammad	42501-89484495	Dust mahammad
Gull Rasool	42501-54106933	Gull Rasool
Myekhan	42501-21480566	Myekhan
Sakeema	42501-47690748	Sakeema
Wajir Khalid	42501-77941656	Wajir Khalid
Gulam Haider	4220120774395	Gulam Haider
Sajida	42501-86922942	Sajida
Mahammad Ali	42501-86111177	Mahammad Ali
M. Yarsi	42501-16460145-7	M. Yarsi
M. Saleem	42501-13716716-7	M. Saleem
Zubair	42501-52628303	Zubair
Zul Zeb	42501-0857303-7	Zul Zeb
M. Rafiq	42501-05070589	M. Rafiq
Allah dad	42501-87624719	Allah dad
Khansa	42501-6828243-4	Khansa
Jahrobaguo	45401-0346846-3	Jahrobaguo
Ali Bux	42501-2479248-1	Ali Bux
Wahjir mahammad	4530-48740531-5	Wahjir mahammad
Abdul Aziz	42501-4092538-3	Abdul Aziz
M. Nasir	42501-81530925	M. Nasir
M. Asif	42301-0765738-7	M. Asif
Najia	42301-0765738-7	Najia
Lul Mahammad	42501-348511-6	Lul Mahammad
Ibba	42501-3728160-9	Ibba
Najma	42501-0653009-8	Najma
Jatir	422016955996-7	Jatir
Mala Bux	42501-5819290-7	Mala Bux
AKBax	42501-9383769-7	AKBax
Waqar	42501-11476733-5	Waqar



ہم اہلکارین بلیر اور متاثرین بلیر ایکسپریس دے شکستہ دستاویز سے شفق ہیں اور سندھ انوار نمٹنل پروٹیکشن ایجنسی (سیل) سے مطالب کرتے ہیں کہ بلیر ایکسپریس دے سے منسوبہ پر نظر ثانی کرے جو نہ صرف بلیر کی عوام، بلیر مکانات وزمینوں اور زراعت کو اثر انداز کر رہا ہے بلکہ پورے کراچی کے ماحول کے لئے تباہ کن ثابت ہو گا۔

نام	شناختی کارڈ نمبر	دستخط
قرآن بلوچ	42501-0663479-8	Al. B. B.
دریابی	42501-9120538-8	D. B.
حیات جی بی	42501-9255238-2	H. B.
شعیم شوکت	42501-6500851-8	S. B.
نسیم	42501-0348107-2	N. B.
مریم	42501-7311579-2	M. B.
ممتاز جاوید	41302-1916555-6	M. B.
طاہرہ بانو	42501-1368529-4	T. B.
دنیا بانو	42501-4570949-0	D. B.
مریم	42501-5677665-6	M. B.
ماہین بی	42501-5372085-4	M. B.
رفسانہ	44103-8367499-8	R. B.
نمیں	42501-0458902-8	N. B.
انسہ نلاق	42501-4585232-8	A. B.
زینہ	42501-6671695-6	Z. B.
نور بانو	42501-1364720-4	N. B.
کمن	42501-4929147-5	K. B.
زہرہ	42501-669844-4	Z. B.
فریدہ	42501-7252005-0	F. B.
خیر بی بی	42501-5334874-8	K. B.
سینا دی	42501-5536242-0	S. B.
سویل	42501-0423985-8	J. B.
فرح ناز	42201-4604559-8	F. B.
لمبہ	42501-1607341-4	H. B.
عنیزہ	42501-8193135-0	A. B.
سعیدہ	42501-1453144-8	S. B.
پروین	42301-457357-6	P. B.
سماء	42501-7098975-4	S. B.
سائبرہ	42501-3946882-4	S. B.

تمام اہلیانِ لیبر اور متاثرینِ لیبر ایکسپریس وے سسٹم کے متعلق ہیں اور سندھ انوائٹمنٹل پروٹیکشن ایجنسی (سیپا) سے مطالبہ کرتے ہیں کہ لیبر ایکسپریس وے کے منصوبے پر نظر ثانی کر کے جوہد صرف لیبر کی عوام، لیبر و مکانات و زمینوں اور زراعت کو اثر انداز کر رہا ہے بلکہ پورے کراچی کے ماحول کے لئے تباہ کن ثابت ہو گا۔

دستخط	شناختی کارڈ نمبر	نام
	4250171576672	Samreen
	425015215145-2	Durdana
	4250174559327	Khuda Bux
	5118111772717	Rasool Bux
	4250157752300	Shahen
	4250186849213	Taj Muhammad
	4250142507384	Aisha
	441032223113-1	Mir Muhammad
	4250190541820	Sadou
	4250172380489	Jabbar
	4250128541253	Zhaid
	425013650119-3	Javed
	4320124514301	Gul Ali
	4250172380489	Kuzim Bux
	4250136583675	Jan Muhammad
	4250123581437	M. A. R. B.
	425019422505-3	Abdul Wahab
	425011253957-2	Sah Rish
	5150315800275	Muhammad Ali
	4250166624677	Sadam
	425013398780-3	Abdul Raheem
	4250176088983	Nazam Muhammad
	425019557522-5	Dilshan
	4250166624677	Sadam
	4250176088983	Nazam Mohd
	4250115758895	Jamal Hussain
	4250180103170	Abida
	425014119097-7	Belalul
	4250176804806	Fatima



تمام اہلیان لیبر اور متاثرین لیبر ایکسچینج کے ذریعہ ملحق دستاویز سے متفق ہیں اور سندھ انوائزمنٹل پروٹیکشن ایجنسی (سیپا) سے مطالبہ کرتے ہیں کہ لیبر ایکسچینج کے متعلقہ پیر نظر ثانی کر سکیں جو نہ صرف لیبر کی عوام، لیبر و مکانات و زمینوں اور ذراعت کو اثر انداز کر رہا ہے بلکہ پورے کراچی کے ماحول کے لئے تباہ کن ثابت ہو گا۔

نام	شناختی کارڈ نمبر	دستخط
Amif	94206238806-5	Ad.
M. Amis	42501-9653332-9	m. Hala
ASa	42501-7802400-9	Ad.
Aladdin	42201-0773003-7	Aladdin
Haron	42501-1711966-5	Haron
Jamal-kehtoo	42501-3803880-6	Q.ley
M. Boota	425017066174-3	m. Boota
Siraj	423015213819-4	C.cho
Lalchan	428017273864-5	Lalchan
Ah Nawaz	4250179758813	Ah m.
Sakwan	4143036089141-9	Sakwan
Gulan Akbar	4210154927281	Gulan Akbar
Jumma	425012713247-5	Jumma
Hajra	425017576642-0	Hajra
Shamim Ahemad	4250169232731	Shamim
NOOR BANU	42501-15011746-	Nous
Man Zoor	4130487825537	man Zoor
Abdul Johar	4250139303937	Abdul
Nawaz Ali	4250102179497	Nawaz
Abiz	425011375406-4	Abiz
Sakidat	425011132714-7	Shakidat
Bisma	4250127551880	Bisma
M. Yasir	4330272843313	M. Yasir
Hussain	4250119537811	Hussain
Naveed	425014147587	Naveed
m. munawar	4210176118327	m. munawar
Abdullah	4250145716791	Abdullah
Murad	4250184462907	Murad
Kushub	4220199123617	Kushub

تم ایلیان طبر اور متاثرین طبر ایکسپریس کے مسلک دستاویز سے متفق ہیں اور سندھ انوار نمٹل پروٹیکشن ایجنسی (سیپا) سے مطالبہ کرتے ہیں کہ طبر ایکسپریس کے متعلقہ پر نظر ثانی کر کے جوہ صرف طبر کی عوام، لیزر مکانات و زمینوں اور زراعت کو اثر انداز کر رہا ہے بلکہ پورے کراچی کے ماحول کے لئے تباہ کن ثابت ہو گا۔

نام	شناختی کارڈ نمبر	دستخط
Amif	94206238806-5	Ad
M. Amis	42501-965332-9	m. Hala
ASal	42501-7802400-9	Alta
Alledin	42201-0973003-7	Alhadi n
Haroon	42501-1711966-5	Huzan
Jamal- khetoo	42501-3803880-6	Qen
M. Boofa	425017066174-3	m. Boto
Siraj	423015213819-4	Cerilo
Lalchan	4280172738645	Lalchi
Ah Nawaz	4280179758813	Ah n.
Sadwan	4143036089191-9	Sadwan
Gulan Akbar	4210154927281	Gulan Akbar
Jumma	425012713247-5	Jumma
Haj Ali	425017576642-0	Haj Ali
Shamim Ahmad	4250169232737	Shamim
Noor Bano	42501-15011746-	Nawaz
Man Zoor	4130487825537	Man Zoor
Abdul Johar	4250139303937	Abdul Johar
Nawaz Ali	4250102179497	Nawaz Ali
Abizah	425011375406-4	Abizah
Sakidat	425011132714-7	Shakidat
Bisma	4250127551880	Bisma
M Yasir	4330272843313	M Yasir
Hussain	4250119537811	Hussain
Naveed	4250141147587	Naveed
M. Munawar	4210176118327	M. Munawar
Abdullah	4250145716791	Abdullah
Murad	4250184462907	Murad
Kushif	4220199123617	Kushif



ہم اہلجان طبر اور متاثرین طبر ایکسپریس دے شکستہ دستاویز سے شفق ہیں اور سندھ انوائز نمٹل پروٹیکشن ایجنسی (سیپا) سے مطالبہ کرتے ہیں کہ طبر ایکسپریس دے کے منصوبے پر نظر ثانی کرے جو نہ صرف طبر کی عوام، بلکہ زمینداروں اور زراعت کو اثر انداز کر رہا ہے بلکہ پورے کراچی کے ماحول کے لئے تباہ کن ثابت ہوگا۔

دستخط	شناختی نمبر	نام
	425011795272-5	Mo Arshad Baloch
	12104-7617357-5	Zesham
	414091412494-9	W hard Baloch
	425018074556-1	Jamal Udeen
	45402-48653287	Asif Hurlain
	4250155340435	M. Hanif
	425016247071-3	Meh'sab
	425014929736-5	M. Ismail
	534621956215-5	Abdul Gatab
	42401-89062969	Sameer
	425016153357-3	Sajjad
	425016264021-9	Gulam Rasool
	4250182470141	Abdul Razzaq
	425011974997	Jan Muhammad
	4170305846813	Gul Hassan
	425011502204-3	Peer Bux
	425019239975-8	Itama
	4250184788345	Abdul Majid
	4250145760379	M. Nesar
	425016420686-5	Riz Muhammad
	426040370550-1	Babar Ali
		426040376550-1
	4250174684561	Taz Ali
	4250189424495	Dost Muhammad
	4250154105933	Gul Rasool
	425018611177	Muhammad Ali
	425010103297	M. Soomra
	4250115832321	Mohamud Khan
	4250149642142	Rani